

59874 - کیا حج کے اخراجات والد سے لینا جائز ہیں ؟

سوال

کیا میرے والد کے لیے میرے اور میری بیوی کے اخراجات حج ادا کرنا جائز ہیں ؟
اور کیا وہ بطور ہدیہ حج کی دو ٹکٹ اور باقی اخراجات دے سکتے ہیں؟
اور اگر مندرجہ بالا دونوں طریقوں میں سے اگر کوئی بھی طریقہ اختیار کریں تو کیا ہمارا حج نفلی ہو گا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو حج کے اخراجات مہیا کر سکتا ہے اور فرضی یا نفلی حج صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ حج کے اخراجات انسان کے ذاتی ہوں، بلکہ کوئی دوسرا بھی دے تو اس سے حج صحیح ہوگا۔
اور اگر اخراجات دینے والا شخص کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو اس کے لیے اجر و ثواب اور بھی زیادہ ہوگا، اور ان شاء اللہ اسے اس کے حج جتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا، آپ کے والد جو کچھ آپ اور آپ کی بیوی کے حج کے اخراجات مہیا کرنے کا کام کر رہے اس پر ان کا شکریہ ادا کریں، اور ان کا یہ عمل درج ذیل فرمان باری تعالیٰ میں شامل ہوتا ہے:

اور نیکی و بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو المآئدة (2) .

سوال میں بیان کردہ دونوں طریقوں میں کوئی فرق نہیں، اور اگر آپ دونوں نے پہلے حج نہیں کیا تو آپ کا یہ حج فرضی ہوگا، اور والد کے اخراجات دینے کی بنا پر نفلی نہیں بلکہ فرضی ہی رہے گا۔

اس کے متعلق مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا فتویٰ سوال نمبر (36990) کے جواب میں بیان ہو چکا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔

اور اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ آپ کے والد جو آپ کو حج کے اخراجات مہیا کر رہے ہیں انہوں نے اس سے قبل حج کیا ہوا ہو؛ کیونکہ وہ بھی حج کی فرضیت کے مخاطب ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ خود تو فرضی حج میں تاخیر کرتے پھریں اور دوسروں کو حج کروائیں، بلکہ اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ خود حج کریں، اور پھر اگر ان کے پاس مال باقی بچے تو وہ آپ کا حج کے اخراجات میں تعاون کریں۔

اس سلسلے میں مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا فتویٰ سوال نمبر (36637) کے جواب میں بیان کیا جا چکا ہے، اس کی مطالعہ ضرور کریں۔

کسی دوسرے کے دیے ہوئے مال سے حج کرنے کی دلیل کسی فقیر شخص کو حج کرنے کے لیے زکاة کی ادائیگی ہے، اور یہ زکاة کے مستحقین کے متعلق قرمان باری تعالیٰ میں شامل ہوتا ہے:

اور اللہ کی راہ میں التوبة (60) .

اور یہ جہاد اور حج کو بھی شامل ہے۔

اس کے متعلق سوال نمبر (40023) کے جواب میں تفصیل بیان ہو چکی ہے، آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔

واللہ اعلم .